

SODIUM FORMATE	سodium formate	ICSC: 1165
CAS # 141-53-7 RTECS # LR0350000 UN # EC # EINECS# 205-488-0 UN Hazard class:	: دیگر نام Formic acid, sodium salt فارمولہ: HCOONa سامانی وزن: 68.0	
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانا	بچاؤ	خطے کی قسم
آگ کے قرب و بخار میں پھیلنے کی صورت میں تمام بچانے والے مادے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔		شدید نظرات \ علامات مخصوص حالات میں بننے والا مادہ۔
		ہوا میں بکھرے ہوئے باریک ذرات، دھاکہ خیز آمیزہ بناسکتے ہیں
	گرد کو پھیلنے سے بچائیں	جم میں داغندہ:
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں	ہوا کی آمد و رفت، لوکل ایگزاست یا الات تنفس کا انتظام کریں	کھانسی گلے کی خرابی سانس کے راستے:
خاب شدہ کپڑے تاریں جلد پوافر مقدار میں پانی بھائیں یا شاور کے نیچے لے جائیں	خافتی دستا نے استعمال کریں	جلد کے راستے:
پہلے کھٹی منٹ تک پانی سے ابھی طرح دوہیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔	خافتی گول استعمال کریں	اسکھوں میں پڑنا:
پانی سے منہ اندر سے صاف کریں۔	کام کے دوران خود دلوں اور سگریٹ نوشی مت کریں	نگلنے کی صورت میں:
پیکٹ کرنا اور لیبل لگانا:	بکھرنے کی صورت میں اقدامات:	
	گرے ہوئے مادے کو برتوں یا ڈبوں میں اکٹا کریں بقیہ مادے کو وافر مقدار میں پانی سے صاف کر دیں۔	
ذخیرہ کرنا:	ہنگامی اقدامات:	
طاقوتی زیباوں سے علیحدہ رکھیں خیکھ رکھیں۔ اس کو اچھی طرح بند رکھیں		
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں		

SODIUM FORMATE	سُودیم فارمیٹ	ICSC: 1165
اہم معلومات		
<p>جم میں داغھے کے راستے: یہ مادہ جنم میں اس کے ذرات کے سانس میں جانے سے چذب ہو سکتا ہے سانس کے راستے داغھے کے اثرات: 20 سنٹی گریڈ پر تنفس برائے نام ہوتی ہے لیکن ہوا میں ذرات کی مقدار تیزی سے تکلیف دہ حد کو چھو سکتی ہے مختصر مدت کے لیے جنم میں داغھے کے اثرات: آنکھوں میں اور سانس کی نالی میں سورش پیدا ہوتی ہے۔</p>	<p>طبعی حالت: نبی جذب کرنے والا سفید یا دانے قلمی پاؤڈر طبعی خواص: پاؤڈر یا دانے دار شکل میں ہوا ملنے سے دھاکہ ہو سکتا ہے۔ کیمیائی نظرات: یہ مادہ گرم کرنے پر تخلیل ہو جاتا ہے اور کاربن مونو آسائیڈ ہائیڈروجن بناتا ہے۔ جس سے اگر اور دھاکہ کا خطہ پیدا ہو جاتا ہے تیرابوں کے ساتھ ملنے اور formic acid کے تھارات بناتا ہے</p> <p>ہوا میں مقررہ حدود: TLV معین نہیں کی گئی ہے</p>	
طبعی خواص		
	<p>نقطرہ پچھلاو: [253] سنٹی گریڈ کثافت اضافی (بال مقابل پانی = 1): 1.9 g/cm³ 20 سنٹی گریڈ پر پانی میں حل پذیری (گرام فی 100 ملی لتر): 97</p>	
ماہولیاتی اعداد و شمار		
نوٹس (Notes)		
[ایک تجارتی نام ہے Salachlor]		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
IPCS International Programme on Chemical Safety		Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999